



عمومی امتحان کیلئے
تعمیراتی امور

دبئی کی تعمیراتی امور کیلئے

1. (ا) کیلئے سہ ماہی 7/2010 (تعمیراتی امور کیلئے) میں تقریباً سہ ماہی کیلئے
 تعمیراتی امور کیلئے 151 ویں ڈیپارٹمنٹ کیلئے تعمیراتی امور کیلئے سہ ماہی
 میں تعمیراتی امور کیلئے تعمیراتی امور کیلئے تعمیراتی امور کیلئے (ب) کیلئے
 کیلئے تعمیراتی امور کیلئے تعمیراتی امور کیلئے تعمیراتی امور کیلئے
- (ب) کیلئے تعمیراتی امور کیلئے تعمیراتی امور کیلئے تعمیراتی امور کیلئے
2. (ا) کیلئے تعمیراتی امور کیلئے تعمیراتی امور کیلئے تعمیراتی امور کیلئے
 تعمیراتی امور کیلئے تعمیراتی امور کیلئے تعمیراتی امور کیلئے
3. (ا) کیلئے تعمیراتی امور کیلئے تعمیراتی امور کیلئے تعمیراتی امور کیلئے
 تعمیراتی امور کیلئے تعمیراتی امور کیلئے تعمیراتی امور کیلئے
- (ب) کیلئے تعمیراتی امور کیلئے تعمیراتی امور کیلئے تعمیراتی امور کیلئے
 کیلئے تعمیراتی امور کیلئے تعمیراتی امور کیلئے تعمیراتی امور کیلئے
- (ب) کیلئے تعمیراتی امور کیلئے تعمیراتی امور کیلئے تعمیراتی امور کیلئے
 تعمیراتی امور کیلئے تعمیراتی امور کیلئے تعمیراتی امور کیلئے
5. (ا) کیلئے تعمیراتی امور کیلئے تعمیراتی امور کیلئے تعمیراتی امور کیلئے
 تعمیراتی امور کیلئے تعمیراتی امور کیلئے تعمیراتی امور کیلئے

6. (a) In the event of the liquidation of the company, the assets of the company shall be applied in the following order of priority:
1. The debts of the company which are secured by a charge on the assets of the company.
2. The debts of the company which are secured by a charge on the movable property of the company.
3. The debts of the company which are unsecured.
4. The assets of the company which are not subject to any charge.

1. The debts of the company which are secured by a charge on the assets of the company.
2. The debts of the company which are secured by a charge on the movable property of the company.
3. The debts of the company which are unsecured.
4. The assets of the company which are not subject to any charge.

6. (a) In the event of the liquidation of the company, the assets of the company shall be applied in the following order of priority:
1. The debts of the company which are secured by a charge on the assets of the company.
2. The debts of the company which are secured by a charge on the movable property of the company.
3. The debts of the company which are unsecured.
4. The assets of the company which are not subject to any charge.

(b) In the event of the liquidation of the company, the assets of the company shall be applied in the following order of priority:
1. The debts of the company which are secured by a charge on the assets of the company.
2. The debts of the company which are secured by a charge on the movable property of the company.
3. The debts of the company which are unsecured.
4. The assets of the company which are not subject to any charge.

7. In the event of the liquidation of the company, the assets of the company shall be applied in the following order of priority:
1. The debts of the company which are secured by a charge on the assets of the company.
2. The debts of the company which are secured by a charge on the movable property of the company.
3. The debts of the company which are unsecured.
4. The assets of the company which are not subject to any charge.

8. In the event of the liquidation of the company, the assets of the company shall be applied in the following order of priority:
1. The debts of the company which are secured by a charge on the assets of the company.
2. The debts of the company which are secured by a charge on the movable property of the company.
3. The debts of the company which are unsecured.
4. The assets of the company which are not subject to any charge.